



گھرانوں کیلئے خاندان کی مشغولیت کے مہینہ کی سرگرمیاں

نومبر تعلیم میں خاندان کی شمولیت کا مہینہ ہے۔ ذیل میں ان سرگرمیوں کی فہرست ہے جو گھر والے ماہ نومبر میں ہر روز کر سکتے ہیں۔

1. اپنے اسکول کی پی ٹی اے، پی ٹی او یا بوسٹر میں شامل ہوجائیے۔
2. اپنے بچے کے اسکول میں کسی سرگرمی میں شرکت کیلئے وقت نکالیں۔
3. اپنے بچے کیساتھ کوئی کتاب، مضمون، رسالہ، یا اخبار پڑھیے۔
4. اپنے بچے کے ساتھ مختلف اقسام کی موسیقی سنیں اور اس پر بات کیجیے۔
5. مقامی پارک یا کسی دوسرے پرکشش مقام کی سیر کیجیے اور اس تجربے پر بات کیجیے۔
6. ایک دن کا منصوبہ بنائیے جس میں کوئی الیکٹرانکس نہ ہو۔ کتابوں کھیلوں، یا معمول کے متعلق سوچیے۔
7. اپنے بچے کو والدین بطور اساتذہ قومی دن کیلئے کوئی نئی مہارت سکھائیے۔
8. اپنے بچے کے اسکول کے ساتھ امریکن ایجوکیشن ویک منانے کا منصوبہ بنانے کیلئے رابطہ کیجیے۔
9. اپنے بچے کے ساتھ کیریئر کی دلچسپیاں اور امکانات دریافت کیجیے۔
10. بطور ایک خاندان، دوبارہ کارآمد بنانے کی کوششوں کے متعلق سیکھنے اور کم کرنے، دوبارہ استعمال کرنے اور کارآمد بنانے کا عہد کیجیے۔
11. ویٹرنز ڈے کے متعلق اپنے بچے سے بات کیجیے کہ ہم انہیں کیوں عزت دیتے ہیں جو ہماری کاؤنٹی کیلئے بہادری سے لڑے۔
12. آنے والے ہفتے کی تیاری کیلئے اپنے بچے کے ساتھ پیدل چلیں، ہلکی پھلکی ورزش کیجیے، یا مراقبہ کیجیے۔
13. اپنے بچے کے بستہ یا لنچ باکس میں حوصلہ افزائی کیلئے ایک مختصر تحریر رکھیے۔
14. اپنے بچے کے استاد سے اسکول میں اس کی پیش رفت کے متعلق بات کیجیے۔
15. ایک ٹی وی یا ریڈیو ٹاک شو کی میزبانی کا ڈھونگ چاہیے اور باری باری ایک دوسرے کا "انٹرویو" کیجیے۔
16. والدین کی شمولیت کے قومی دن کیلئے پورا سال اپنے بچے کی تعلیم میں مشغول رہنے کا عزم کیجیے۔
17. اپنے بچے کے ہوم ورک اور کلاس روم میں مدد کیلئے وسائل تلاش کیجیے۔
18. گھر کی بہتری کا کوئی منصوبہ منتخب کیجیے اور مل جل کر کام کیجیے۔
19. اپنے بچے کے ساتھ خبریں سرسری طور پر دیکھیے اور حالات حاضرہ پر بات کیجیے۔
20. اپنے بچے کیساتھ کوئی کتاب، مضمون، رسالہ، یا اخبار پڑھیے۔
21. اپنے بچے سے اسکول میں اس کے پسندیدہ مضمون کے متعلق بات کیجیے۔
22. اپنے بچے کو کھانے کی منصوبہ بندی کرنے، سودا سلف کی فہرست بنانے، اور خریداری میں مدد کیلئے بلائیے۔
23. میز کے شرکاء کو بتائیے کہ آپ کیوں مشکور ہیں۔
24. بطور خاندان کسی ورزش کی سرگرمی کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنائیے۔
25. اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے کیلئے کسی خاندانی روایت کو شروع کیجیے۔
26. پرانی خاندانی تصاویر دیکھیے اور اپنے خاندان کی تاریخ کے متعلق کہانیاں سنائیے۔
27. اپنے بچے کے آج کا ہوم ورک کا جائزہ لیجیے اور اس سے بات کیجیے۔
28. اپنے بچے سے اسکول میں اس کے پسندیدہ مضمون کے متعلق بات کیجیے۔
29. بطور خاندان مل جل کر ایک کھانا تیار کیجیے۔
30. اپنے بچے کی صلاحیتوں کے بجائے اس کی کوششوں کی تعریف کیجیے۔